



سوال

(695) مسجد جاتے وقت خوشبو استعمال کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یہاں ایک حدیث ہے جو عورتوں کو عطر اور پاکیزہ خوشبو کے استعمال کرنے سے روکتی ہے خاص طور پر مسجد میں جانے کے وقت تو کیا عورت کے لیے اپنے جسم کی اس بدبو کو ہلکا کرنے کے لیے خوشبو جائز ہوگی جسے صابن بھی دور نہیں کر سکتا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بنیادی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے گھر سے نکلنے کے وقت عطر کی مہک والی خوشبو لگانا جائز نہیں چاہے وہ مسجد کی طرف یا کسی اور طرف جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عام ہونے کی وجہ سے۔

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَفْظَرَتْ فَمُرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجْزُوا بِهَا مِنْ زَائِنَةٍ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَائِنَةٌ» [1]

"جو عورت عطر لگا کر نکلی تو کسی قوم کے پاس سے گزری تاکہ وہ اس کی مہک محسوس کریں تو یہ بھی اور شہوت کی ہر آنکھ زانیہ ہے۔ (اسے امام احمد اور نسائی نے ابو موسیٰ کی حدیث سے بیان کیا ہے

ہمارے علم کے مطابق ایسی کوئی بو نہیں جسے صابن بھی دور نہ کر سکے یہاں تک کہ اسے دھونے کے بعد میں خوشبو کے استعمال کی ضرورت پیش آئے۔ اور نہ ہی عورت سے مسجد جانے کا مطالبہ ہے بلکہ اس کی گھر میں نماز کی ادائیگی مسجد میں نماز کی ادائیگی سے کہیں بہتر ہے (سعودی فتویٰ کمیٹی)

[1] - حسن سنن النسائی رقم الحدیث (5126)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف



صفحہ نمبر 614

محدث فتویٰ